

JSGCL/CS/001/2022  
November 30, 2022

**The General Manager,**  
Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi - 74000

**JS Global Capital Limited**  
17/18th Floor, The Centre  
Plot No. 28, SB-5  
Abdullah Haroon Road  
Saddar, Karachi-74400, Pakistan.  
www.jsqcl.com

**UAN:** +92 21 111 574 111  
**Fax:** +92 21 3563 2574  
**NTN:** 1558280-9

**Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting ("EOGM")**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the notice of Extra Ordinary General Meeting of JS Global Capital Limited ("the Company" or "JSGCL") to be held on Friday, December 23, 2022 at Karachi that will be published in the "News" (in English) and "Jung" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) on Thursday, December 01, 2022.

You may inform the TREC Holders of the Exchange, accordingly,

Yours Sincerely,



---

**Muhammad Yousuf Amanullah**  
Company Secretary

cc:

1. Director / HOD Monitoring & Inspection (M&I), Specialized Companies Division, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad;
2. Director / HOD Surveillance, Supervision and Enforcement, Securities Market Division Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Islamabad.




**JS Global Capital Limited**

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of JS Global Capital Limited (the "Company" or "JSGCL") will be held at 15th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi on Friday, December 23, 2022, at 11:30 a.m., to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three years commencing from December 23, 2022, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

1. Mr. Shahab Anwar Khawaja
2. Mr. Iftikhar Ahmed Rao
3. Mr. Muhammad Yousuf Amanullah
4. Mr. Salaal Hasan
5. Ms. Shireen Raza
6. Mr. Hasan Saeed Akbar
7. Mr. Fahad Viqar Siddiqui

December 01, 2022

Muhammad Yousuf Amanullah  
Company Secretary

## NOTES

1. The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 23, 2022. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).
2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:
  - a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
  - b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017.
  - c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
  - d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
  - e) He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
  - f) The Selection of Independent Directors will be through the process prescribed in Section 166 of the Companies Act, 2017 and shall be elected in the manner prescribed in Section 159 of the Companies Act, 2017. Person contesting as Independent Director shall submit a declaration that he/ she meets the criteria of independence and eligibility laid down under the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
  - g) The form and affidavit prescribed in the Securities Broker (Licensing and Operations) Regulations, 2016 duly filled and signed. The same can be obtained by the member who wishes to contest from the registered office of the Company during regular business hours. Confirmation of any successful candidate shall be subject to regulatory clearance, and in case of a foreigner also subject to the security clearance by the Ministry of Interior for which purpose he/she shall submit the requisite undertaking. A copy of the undertaking can be obtained from the registered office of the company during regular business hours.
  - h) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;
  - i) A declaration that:
    - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
    - He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
    - Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
    - Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
    - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
3. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: [www.jsjcl.com](http://www.jsjcl.com).
4. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from December 17, 2022, to December 23, 2022, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting.
5. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on December 16, 2022 by the Company's Registrar i.e., CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
6. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.
7. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
8. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

## A. For Attending the Meeting

- a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.
- b. The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: [jsgcl.cs@js.com](mailto:jsgcl.cs@js.com) on or before December 21, 2022.

Name of Shareholder:	CNIC No.:	Folio No.:	Cell Phone No.:	Email Address:

The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Further, the members can also provide their comments / suggestions for discussion on the agenda items of the EOGM through following means:

WhatsApp	SMS	Email
+92 301 5658616	+92 301 5658616	<a href="mailto:jsgcl.cs@js.com">jsgcl.cs@js.com</a>

- c. The members who intend to attend and participate physically in the EOGM of the Company will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.

- d. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
  - e. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.
- B. For Appointing Proxies**
- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per requirements given in this notice.
  - b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
  - e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
  9. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.

## IMPORTANT NOTICES TO SHAREHOLDERS

### Particulars of Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

### CDC Share Registrar Services Limited

CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi-74400.

Tel. Toll Free: 0800-23275,

mail: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)

Website: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)

### Computerized National Identity Card ("CNIC") of Shareholders ("Mandatory")

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at [jsgcl.cs@js.com](mailto:jsgcl.cs@js.com) along with folio number and updated address for correspondence.

### Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

### Mandate for e-Dividend

Section 242 of the Act requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification S.R.O.1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

The members are requested to provide duly filled in and signed e-dividend form available at the following link: <https://www.jsjcl.com/pdf/E-Dividend-Mandate-JS-Global-Capital-Limited.docx>

In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

### Electronic Transmission of Financial Statements and Notices

Pursuant to Section 223(7) of the Companies Act, 2017 the Company is allowed to send financial statements and reports to its members electronically. In this regard, members are hereby requested to convey their respective information on the Form which is available at the Company website i.e., at the following link to ensure compliance with the above referred provision:

<https://www.jsjcl.com/pdf/consentform2017.doc>

Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned at the end of the notice.

### Unclaimed Dividend/Shares

Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

### Deposit of Physical Shares into CDC Account

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

### Address of Share Registrar of the Company:

#### CDC Share Registrar Services Limited

CDC House, 99 – B, Block 'B',

S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal

Karachi-74400

Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275)

Fax: (92-21) 34326053

Email: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)

Website: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)

### STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director. The Company is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017, and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.





**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING**

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of JS Global Capital Limited (the "Company" or "JSGCL") will be held at 15th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi on Friday, December 23, 2022, at 11:30 a.m., to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Directors for a period of three years commencing from December 23, 2022, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:
  1. Mr. Shahab Anwar Khawaja
  2. Mr. Iftikhar Ahmed Rao
  3. Mr. Muhammad Yousuf Amanullah
  4. Mr. Salaal Hasan
  5. Ms. Shireen Raza
  6. Mr. Hasan Saeed Akbar
  7. Mr. Fahad Viqar Siddiqui

By Order of the Board

---

**Muhammad Yousuf Amanullah**  
Company Secretary

Karachi: December 01, 2022

## NOTES

1. The term of office of the present Directors of the Company will expire on December 23, 2022. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for the next term of three years. (The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company).
2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:
  - a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
  - b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017.
  - c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
  - d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.
  - e) He/ she has not been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution.
  - f) The Selection of Independent Directors will be through the process prescribed in Section 166 of the Companies Act, 2017 and shall be elected in the manner prescribed in Section 159 of the Companies Act, 2017. Person contesting as Independent Director shall submit a declaration that he/ she meets the criteria of independence and eligibility laid down under the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
  - g) The form and affidavit prescribed in the Securities Broker (Licensing and Operations) Regulations, 2016 duly filled and signed. The same can be obtained by the member who wishes to contest from the registered office of the Company during regular business hours. Confirmation of any successful candidate shall be subject to regulatory clearance, and in case of a foreigner also subject to the security clearance by the Ministry of Interior for which purpose he/shall submit the requisite undertaking. A copy of the undertaking can be obtained from the registered office of the company during regular business hours.
  - h) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport in case of foreigners;
  - i) **A declaration that:**
    - He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
    - He/she nor his/her spouse is not serving as a director in any other company listed on the Pakistan Stock Exchange.
    - Meets the Fit and Proper criteria for Directors for a securities broker as contained in Securities Brokers (Licensing and Operations) Regulations, 2016
    - Neither he/she is holding directorship or employment in any other company licensed as a securities broker.
    - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
3. The Company has placed the Notice of General Meeting along with form of proxy on its website: [www.jsqcl.com](http://www.jsqcl.com).

4. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from December 17, 2022, to December 23, 2022, (both days inclusive) for determining the entitlement of Ordinary shareholders for attending and voting at the General Meeting.
5. Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on December 16, 2022 by the Company's Registrar i.e., CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
6. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.
7. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
8. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

#### **A. For Attending the Meeting**

- a. In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Company has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online.
- b. The members who intend to attend and participate in the EOGM of the Company through video link arrangement are requested to complete identification and verification formalities i.e., to provide following required information at the email: [jsgcl.cs@js.com](mailto:jsgcl.cs@js.com) on or before December 21, 2022.

<b>Name of Shareholder:</b>	<b>CNIC No.:</b>	<b>Folio No.:</b>	<b>Cell Phone No.:</b>	<b>Email Address:</b>

The video link of meeting will be sent to the members on their email addresses.

Further, the members can also provide their comments / suggestions for discussion on the agenda items of the EOGM through following means:

<b><u>WhatsApp</u></b>	<b><u>SMS</u></b>	<b><u>Email</u></b>
+92 301 5658616	+92 301 5658616	<a href="mailto:jsgcl.cs@js.com">jsgcl.cs@js.com</a>

- c. The members who intend to attend and participate physically in the EOGM of the Company will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.

- d. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
- e. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

#### **B. For Appointing Proxies**

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per requirements given in this notice.
- b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
9. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.

### **IMPORTANT NOTICES TO SHAREHOLDERS**

#### **Particulars of Physical Shareholders**

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future:

#### **CDC Share Registrar Services Limited**

CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free: 0800-23275, mail: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com) Website: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)

#### **Computerized National Identity Card ("CNIC") of Shareholders ("Mandatory")**

Shareholders are requested to provide if not already provided, copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar at the address given herein below. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at [jsgcl.cs@js.com](mailto:jsgcl.cs@js.com) along with folio number and updated address for correspondence.

#### **Postal Ballot**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.



### **Mandate for e-Dividend**

Section 242 of the Act requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification S.R.O.1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

The members are requested to provide duly filled in and signed e-dividend form available at the following link:

<https://www.jsycl.com/pdf/E-Dividend-Mandate-JS-Global-Capital-Limited.docx>

In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

### **Electronic Transmission of Financial Statements and Notices**

Pursuant to Section 223(7) of the Companies Act, 2017 the Company is allowed to send financial statements and reports to its members electronically. In this regard, members are hereby requested to convey their respective information on the Form which is available at the Company website i.e., at the following link to ensure compliance with the above referred provision:

<https://www.jsycl.com/pdf/consentform2017.doc>

Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email which may be greater than 1 MB in size. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of Company's Share Registrar mentioned at the end of the notice.

### **Unclaimed Dividend/Shares**

Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

### **Deposit of Physical Shares into CDC Account**

The shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor account directly with CDC to place their physical shares into script-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Act states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

### **Address of Share Registrar of the Company:**

#### **CDC Share Registrar Services Limited**

CDC House, 99 - B, Block 'B',  
S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal  
Karachi-74400

Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275)

Fax: (92-21) 34326053

Email: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)

Website: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)

**STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

Section 166 of the Companies Act 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director. The Company is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017, and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۳۳ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لئے بلائے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اسم متعلقہ کا ایکٹ بیان منسلک کیا گیا ہے جس میں آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے انتخاب کے جوڑ کی نشاندہی کی جائے گی۔ لہذا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء کے تحت کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بورڈ میں کم از کم دو آزاد ڈائریکٹرز شامل کریں۔ اس کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز ان کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے دفعہ ۱۳۳ کے تحت نئے کردہ آزادی کے معیار اہلیت کے مطابق کیا جائے گا اور ان کے نام ایس ای سی پی کے باضابطہ مجاز پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی آزاد ڈائریکٹرز ان کی مرتب کردہ فہرست میں درج ہوں۔ مزید برآں، ان کا انتخاب ان کی اپنی منقطع صلاحیتوں، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں مناسب بگ و متنیاب ہوں جن MB سے زائد سائز کی ای میل موصل ہو سکتی ہوں۔ مزید برآں، یہ مہربان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹولس کے آؤٹ میں رکھیں گے شیر رجسٹرار کے پتے پر اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیر رجسٹرار کو بروقت مطلع کریں۔

### غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم / حصص

وہ حصص یا ڈیٹا جن کو اپنے منافع منقسم / حقیقی حصص وصول نہیں کر پاتے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے شیر رجسٹرار سے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسم یا حصص اگر کوئی ہوں، تو وصولی / معلومات کے لئے رابطہ کریں۔

### حقیقی حصص کی CDC اکاؤنٹ میں منتقلی

حصص یا ڈیٹا جن کو حقیقی حصص داری رکھتے ہیں وہ اپنے شیر کو غیر کاغذی شکل میں رکھنے کے لئے کسی بھی بروکری یا سی ڈی سی (CDC) سرمایہ کار اکاؤنٹ کے ساتھ براہ راست اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس سے انہیں کئی طرح کی سہولت ملے گی جن میں حصص کی بحفاظت تحویل اور کسی بھی وقت فروخت شامل ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت حقیقی حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید برآں ایکٹ کی دفعہ ۴۲ بتاتی ہے کہ ایکٹ کے آغاز کے بعد SECP کی طرف سے مطلع کی گئی تاریخ کے بعد سے ایک حصصی سرمایہ رکھنے والی کمپنی صرف بکٹ ازسی شکل میں ہی حصص رکھے گی۔ ہر موجودہ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے حقیقی حصص کو بکٹ ازسی فارم کے ساتھ اس انداز میں عیدنا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے اور مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے آغاز سے پانچ سال سے کے اندر تبدیل کر دالیں۔

### کمپنی کے شیر رجسٹرار کا پتہ:

سی ڈی سی شیر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

CDC ہاؤس، B-۱۱۱، بلاک B.S.M.C.H.S، میں ٹاٹراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۲۰۰۔

ٹیلی فون کسٹمر سہیوت سروسز ٹول فری نمبر: (۲۲۲۷۵) CDGPL-۰۸۰۰۔

ٹیکس ۳۳۳۱۰۵۳ (۲۱-۹۲) میل: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)

ويب سائٹ: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)

۹۔ حصص یا شیگان سے درخواست کی باقی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے مشیر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

حصص یا شیگان کے لئے ام نمٹس  
طبیعی حصص یا شیگان کے کوائف

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۱۹ اور کمپنیز (بازل پروویڈنٹ لائٹ فارمز) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے ریگولیشن ۱۹ کے تحت تمام طبیعی حصص یا شیگان کو معروضہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروری معلومات جیسے CN C نمبر پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ جیسے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر ان کے مندرجہ ذیل پتے پر فراہم کریں تاکہ مستقبل میں قانون کی عدم تعمیل یا کسی قسم کی پریشانی سے بچا جاسکے۔

CDC شیئر رجسٹرار سرورسز لیمیٹڈ

ایڈس، بلاک B-44، B.S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۰۰۰۔ ٹیلی فون ٹول نمبر: ۲۳۳۷۷۷-۰۸۰۰  
www.cdcsrsl.com، ویب سائٹ: info.cdcsrsl.com

**حصص یا شیگان کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) (لازمی)**

حصص یا شیگان سے گزارش ہے کہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی فراہم نہیں کی گئی ہے تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل دینے کے پتے پر فراہم کریں۔ اسی کی ایک کاپی پڑھے جانے کے قابل منگین شدہ نقل بعد فولیو نمبر اور مایہ پتہ برائے خزانہ و اکاؤنٹس: sgscl\_cs@zj.com سبھی یا منگنی ہے۔

**پوسٹل بیلت**

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے تحت، ڈائریکٹران کے انتخاب کے مقصد کے لئے اور دیگر کوئی بھی اجراء کو کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۳۳ اور ۱۳۴ کے تقاضوں کے تحت ہو، اس میں ممبران کو پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی یہ ووٹنگ بذریعہ ڈاک مرکوز ہلا ریگولیشن میں دئے گئے طریقہ کار اور تقاضوں کے مطابق ہوگی۔

**ای ڈیویڈنڈ بیلت**

ایکٹ کی دفعہ ۲۳۳ کے تحت سلائیڈ کمپنیز کے لئے ضروری ہے کہ وہ نقد منافع کی تقسیم صرف برقی ذرائع سے ہی براہ راست، حصص یا شیگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں گی۔ SECP نے بذریعہ اپنے نوٹیفیکیشن (S-R-O-1135، ۲۰۱۷) کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشن، ۲۰۱۷ کی جاری کی ہیں جن کمپنی کو تحت ہر حصص یافتہ اس بات کا ذمہ دار ہو گا کہ واجب الادا منافع کی ادائیگی کے لئے وہ اپنے نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرے، تاکہ وہ منافع براہ راست اہل حصص یا شیگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے۔

- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا پتہ اور دستخط شدہ ای ڈیویڈنڈ فارم فراہم کریں جو کہ مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ہے۔

<https://www.jsgcl.com/pdf/E-Dividend-Mandate-IS-Global-Capital-Limited.docx>

اگر شریک بٹ انوی سٹیورٹیریٹی شغل میں ہیں تو مذکورہ معلومات سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

**مالیاتی گوشواروں اور نوٹوں کی برقی ترسیل**

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۳۳ (۷) کے مطابق کمپنی کو اپنے ممبران کو مالی گوشوارے اور پو پو میں برقی طور پر ترسیل کرنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی متعلقہ معلومات اس فارم پر فراہم کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے یعنی مندرجہ ذیل لنک پر تاکہ قوانین کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

<https://www.jsgcl.com/pdf/consentform2017.doc>

## (الف)۔ ایلاس میں ماضی کے لئے:

a۔ سیکرٹری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمیٹی کو ہدایات دی ہیں، تاہم باقی ذرائع کے ذریعے ممبران کی ایلاس عام میں شرکت کو یقین بنانے کے لئے، کمیٹی نے اپنے حصص یا چھان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ایلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایلاس میں آن لائن شرکت کریں۔

b۔ ممبران جو بذریعہ ویڈیو لنک ایلاس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وضاحت اور تصدیق کی رسمی کارروائی مکمل کریں یعنی ای میل [jsgecl\\_cs@jls.com](mailto:jsgecl_cs@jls.com) پر درج ذیل مطلوبہ معلومات 21 دسمبر 2022 تک یا اس سے قبل فراہم کریں۔

شخص یا ایلاس کا نام	CNI C نمبر	فونیا نمبر	ایلاس نمبر	ای میل ایڈریس

ایلاس کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

مزید برآں، ممبران مندرجہ ذیل ذرائع سے EOGM کے اجلاس کے لئے اپنی اراہ / تجاویز بھی فراہم کر سکتے ہیں:

دائیں ایپ	SMS	ای میل
92-3-125158716+	92-3-125158716+	jsgecl_cs@jls.com

- (i)۔ وہ ممبران جو طبی طور پر کمیٹی کے EOGM میں ماضی اور شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں انہیں صوبائی اور / یا وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ COVID-19 سے ملحقہ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ اپنے ممبران کی صلاحیت کے لئے مناسب اقدامات کو یقینی بنانے کے لئے کمیٹی بہترین طور طریقوں اور حکومت اور SECP کی ہدایات پر عمل کرے گی۔
- (ii)۔ انفرادی فرد کی صورت میں، کھاتے دار اور / یا ذیلی کھاتے دار جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC، گلوبلیٹیز کے تحت ایپ لوڈ کر دی گئی ہیں، ایلاس میں ماضی کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل یا پھوٹ کے ساتھ شرکت آتی ذی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دکھانے کی ضرورت کی تصدیق کریں گے۔
- (iii)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بدواعت ڈائریکٹری قرار اور ممبر نامہ بعد نامزد فرد کے دستخط اور درست شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، ایلاس سے قبل کمیٹی کو بھیجے جائیں گے۔

## (ب)۔ ہاکسی کی تقرری کے لئے:

- (i)۔ انفرادی صورت میں، کھاتے دار اور / یا ذیلی کھاتے دار جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC، گلوبلیٹیز کے تحت نام لوڈ کر دی گئی ہیں وہ مندرجہ بالا شرائط کے تحت ہاکسی فارم جمع کروائیں گے۔
- (ii)۔ ہاکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں گے، جن کے نام، پتے اور CNI C نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- (iii)۔ ہاکسی اور اور اتھارٹا کی ممالکان CNI C یا پاپیٹھرت کی تصدیق ہاکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا لازم ہے۔
- (iv)۔ ہاکسی ایلاس میں ماضی کے وقت اپنا اصل CNI C یا اصل یا پھوٹ پیش کرے گا۔
- (v)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بدواعت ڈائریکٹری قرار اور ممبر نامہ بعد نامزد فرد کے دستخط کمیٹی کے ہاکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر پہلے پیش نہ کیا ہو)

## نوٹس

- (۱) کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹران کے مہمے کی مدت ۲۳ دسمبر، ۲۰۲۲ء کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۱) ۱۵۹ کے تحت، ڈائریکٹران نے اگلی تین سالہ مدت کے لئے نئے معمولی اجلاس عام (میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد، عدد منتخب کی ہے۔) (موجودہ ڈائریکٹران کا مفاد صرف اس حد تک وابستہ ہے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹران کی حیثیت سے دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں
- (۲) کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹری کی حیثیت سے انتخابی مقابلے کا خواہشمند ہو، پاسے وہ سکروش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور تو اسے مذکورہ بالا اجلاس سے کم از کم ۱۳ دن قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ سیکرٹری پر درج ذیل دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔

- (ا) اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سے (CDC) انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سے (CDC) شریکا نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر
- (ب) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۳) ۱۵۹ کے تحت خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کا نوٹس
- (پ) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۷۷ کے تحت فارم ۲۸۸ پر حیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کے لئے رضامندی
- (ت) اپنا ایکٹ تفصیلی پر مقابلے کا دفعی پتہ ہے SECP پر ۲۰۱۹ / (1) SRO ۱۱۹۶ مورچہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ء کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے گا۔
- (ث) اسے کسی بھی جواز عدالت نے کسی مالیاتی ادارے کے قرض کی واپسی میں نامزدہ قرار نہ دیا ہو۔
- (ڈ) انڈیا ڈائریکٹران کا پانچویں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۷۷ میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ میں مقرر کردہ طریقے سے منتخب کیا جائے گا۔ جو فرد انڈیا ڈائریکٹری کی حیثیت سے انتخابی مقابلے پاتا ہے، وہ اور قمار مار پیش کرے گا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء اور کمپنیز (میریٹائڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر ریگولیشن ۲۰۱۸ء کے لئے کردہ معیار اہلیت پر پورا اترتا ہو۔

- (ج) سیکیورٹیز بروکر (لائسنسنگ ایجنٹس) کے ضوابط، ۲۰۱۶ء میں مقرر کردہ فارم اور غلط نامہ پر کر کے سے اور دستخط کر کے جمع کروانا ہے۔ ہر وہ فرد جو ڈائریکٹر کے مقابلے کا امیدوار ہے وہ کمپنی کے دفتر سے کام لہا رہی اوقات کے دوران فارم حاصل کر سکتا ہے۔ کسی بھی کامیاب امیدوار کی تصدیق ریگولیشن ۱۷۷ میں مقرر ہوگی، اور کسی غیر ملکی کی صورت میں بھی وزارت داخلہ کی طرف سے سیکیورٹیز کمیشن کے لئے وہ مطلوبہ غلط نامہ جمع کرانے گا۔ انڈیکسنگ کی ایک کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے باقاعدہ کاروباری اوقات کے دوران حاصل کی جاسکتی ہے۔

(چ) کمپنیز رازدہ قومی شناختی کارڈ (CNI) کی ایک کاپی مسدود نقل / غیر ملکی امیدوار کی صورت میں پاسپورٹ کی نقل

(ج) درج ذیل کے بارے میں ایکت قرار نامہ:

- کاروبار اور لاگو قوانین و ضوابط (بشمول اسٹاک ایکچینج کے لسننگ ریگولیشن) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے اہل نہیں ہے۔
- وہ یا اس کی شریک حیات پاکستان اسٹاک ایکچینج میں درج کسی بھی دوسری کمپنی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں۔
- سیکیورٹیز بروکر (لائسنسنگ آف ایجنٹس) ریگولیشن ۲۰۱۶ء میں شامل سیکیورٹیز بروکر کے لئے ڈائریکٹر کے لئے فٹ اور مناسب معیار پر پورا اترتے ہیں۔
- نہ ہی وہ سیکیورٹیز بروکر کے طور پر لائسنس یافتہ کسی بھی دوسری کمپنی میں ڈائریکٹر شپ یا حاکمیت کرتا ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، تنظیمات اینڈ آئیگریڈ لہو ایٹن آف کمپنی اور اسٹاک ایکچینج کے قواعد و ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

۳- کمپنی نے اپنی ویب سائٹ [www.isgcl.com](http://www.isgcl.com) پر اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ پراسی فارم ملے کر دیا ہے۔

۴- کمپنی کی شیڈولڈ انفورمٹن کے مطابق ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ء کو ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ء کو (بشمول دو دنوں ایام) عمومی حصص یافتگان کے اجلاس میں ماضی اور ووٹ دینے کے تعین کے لئے بند رہیں گی۔

۵- ۱۷ دسمبر ۲۰۲۲ء کو کمپنی کے رجسٹرار یعنی CDC شیڈولڈ رجسٹرار سرورسز لینڈ، CDC، بلاک B-۹۹، SMCHS، میں شاہراہ فیصل، کراچی کو سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت حصص منتقل اور جمع کرانے کے لئے موصول ہونے والی درخواستوں کو اجلاس میں ماضی اور ووٹ دینے کے لئے ہر وقت تصویب کیا جائے گا۔

۶- کمپنی کا ہر ممبر جو اجلاس میں شرکت ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ اپنی طرف سے کسی ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے کسی کو اپنی طرف سے ہر وقت مقرر کر سکتا ہے۔ ایکت پراسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

۷- پراکٹیٹو کو اجلاس کے وقت سے کم از کم ۳۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہونا چاہئے۔

۸- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لینڈ (CDC) میں رجسٹرڈ کمپنی کے انتظامی مالکان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے گھول کنٹینٹل لمیٹڈ (کمپنی یا 'ایس ایس سی ایل') کالیکٹ غیر معمولی اجلاس عام پر ذمہ مورثہ ۲۳ دسمبر وقت صبح ۱۱:۳۰ بجے بتلام ۱۵ میں منزل، دی سینٹر پلاٹ نمبر ۲۸، ایس ٹی ۵، عبادت پاون روڈ کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے مستعد کیا جائے گا۔

### عمومی امور

۱۔ کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۱) ۱۵۹ کے مطابق ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ سے تین سال کی مدت کے لئے ڈائریکٹرز کے ذمہ مقرر کردہ کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا ہے۔ سیکوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام، جو خود کو دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کرنے کے اہل ہیں، مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ جناب شباب آفر خواجہ
- ۲۔ جناب افتخار احمد راز
- ۳۔ جناب محمد یوسف المان اللہ
- ۴۔ جناب سلال حسن
- ۵۔ مخزنہ شیریں رضا
- ۶۔ جناب حسن سعید انجو
- ۷۔ جناب فہم وقار صدیقی

محکم دہرڈ

محمد یوسف المان اللہ

کمپنی سیکریٹری

کراچی

۰۱ دسمبر ۲۰۲۲ء



# FORM OF PROXY

The Company Secretary  
**JS Global Capital Limited**  
17th & 18th Floor, The Center, Plot No. 28  
S.B.5, Abdullah Haroon Road, Karachi.

I/We \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
being member(s) of JS Global Capital Limited holding \_\_\_\_\_ ordinary shares as per Registered  
Folio No. / CDC A/c. No. (for members who have shares in CDS) \_\_\_\_\_ hereby appoint  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ of (full address) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ of failing him/her Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ of  
(full address) \_\_\_\_\_  
as my / our proxy in my / our absence to attend, act and vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting  
of the Company to be held on December 23, 2022 and / or any Adjournment thereof.  
As witness my / our hand / seal this \_\_\_\_\_ day of 2022.

Signed by \_\_\_\_\_

in the presence of \_\_\_\_\_

**Witness:**

1. Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CNIC or Passport No.: \_\_\_\_\_


**Witness:**

2. Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CNIC or Passport No.: \_\_\_\_\_



The Signature should  
agree with the  
specimen registered  
with Company.

# FORM OF PROXY

Important:

1. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him /her.
2. This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Office of the Company situated at 17th & 18th Floor, The Center, Plot No. 28, S.B.5, Abdullah Haroon Road, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding meeting.
3. No Person shall act as proxy unless he / she himself / herself is a member of the Company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
4. If a member appoints more than one proxy and / or more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. The form of Proxy must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose name, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy form.

AFFIX  
CORRECT  
POSTAGE

The Company Secretary  
**JS Global Capital Limited**  
17th & 18th Floor, The Center,  
Plot No. 28, S.B.5,  
Abdullah Haroon Road,  
Karachi-



# فارم برائے پراسسی

اہم:

- 1- کبجی کا ممبر اپنی جگہ شرکت اور ووٹ دینے کے لئے ممبر کو بطور پراسسی منتخب کرنے کا حق رکھتا/ رکھتی ہے۔
- 2- مکمل اور دستخط شدہ پراسسی فارم کبجی کے آفس بہ تمام سٹروں اور انٹارویں منزل، وی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، ایٹس۔ بی۔ 5، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل ضرور موصول ہو جانے چاہئیں۔
- 3- کوئی فرد بطور پراسسی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا/ کر سکتی بشرطیکہ وہ خود کبجی کا/ کی ممبر نہ ہو، ماسوائے کارپوریشن کے جو اس فرد کو پراسسی نامزد کر سکتا/ کر سکتی ہو جو ممبر نہ ہو۔
- 4- اگر ممبر ایک سے زائد پراسسی نامزد کرنا کرتی ہے اور ایسا کبجی کے کسی ممبر کی جانب سے پراسسی کے ایک سے زائد اسٹرو منٹس جمع کر دئے جاتے ہیں تو ایسے تمام اسٹرو منٹس غیر مستعمل تصور کئے جائیں گے۔
- 5- پراسسی فارم کبجی کو ضرور وقت پر دو افراد کی گواہی کے ساتھ جن کے نام، پتے اور کپیڈ پرائز تو فی شناختی کارڈ (CNIC) نمبرز فارم پر بیان کئے گئے ہوں جمع پیشکش اور پراسسی کے کپیڈ پرائز تو فی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پبلیشڈ پبلیشڈ جمع کروائیے جائیں۔ کارپوریشن کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورٹ آف ایگورنٹی جمع نمونے کے دستخط پراسسی فارم کے ساتھ جمع ہونگی۔

درست گھنٹ چپکا سکیں

کبجی سیکرٹری  
JS گلوبل کنٹینل لمیٹڈ  
سٹروں اور انٹارویں منزل، وی سینٹر،  
پلاٹ نمبر 28، ایٹس۔ بی۔ 5،  
عبداللہ ہارون روڈ، کراچی۔